

# حدیث میں اللہ پاک کو زمانہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟

مجیب: مولانا محمد کفیل رضاعطاری مدنی

فتویٰ نمبر: Web-1052

تاریخ اجراء: 17 محرم الحرام 1445ھ / 05 اگست 2023ء

## دارالافتاء اہلسنت (دعوت اسلامی)

### سوال

حدیث میں ہے کہ ”اللہ پاک فرماتا ہے لوگ زمانہ کو برا کہتے ہیں حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں“ اس میں اللہ پاک کا اپنے آپ کو زمانہ کہنے سے کیا مقصود ہے؟ کیونکہ زمانہ بدلتا ہے اور اللہ پاک تغیر سے پاک ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

درج بالا حدیث شریف میں قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ (العیاذ باللہ!) اللہ پاک کی ذات ہی زمانہ (وقت) ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے آپ کو زمانہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا خالق، اس میں تصرف کرنے والا اور اس کا مؤثر میں ہوں اور بلاشک و شبہ کائنات کی ہر چیز میں متصرفِ حقیقی اللہ جل جلالہ ہی ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ زمانہ میں تغیر و تبدل میرے حکم سے ہوتا ہے لہذا زمانہ کو برانہ کہا جائے۔

مشکوٰۃ المصابیح میں بحوالہ صحیحین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”قال اللہ تعالیٰ: یؤذیننی ابن آدم یسب الدھر وانا الدھر بیدی الامر، اقلب اللیل والنهار“ یعنی اللہ پاک فرماتا ہے: ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے کہ زمانہ کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میرے ہی دستِ قدرت میں تمام امور ہیں، میں دن رات کو پلٹتا ہوں۔ (مشکوٰۃ المصابیح مع مرقاة المفاتیح، جلد 1، صفحہ 171، حدیث 22، مطبوعہ: بیروت)

اس حدیث پاک کے تحت مرآة المناجیح میں ہے: ”یہاں دہر (زمانہ) سے مراد مؤثرِ حقیقی اور مسبب الاسباب ہے ورنہ رب تعالیٰ کو دہر کہنا درست نہیں اور نہ دہر اللہ کا نام ہے۔“ (مرآة المناجیح، جلد 1، صفحہ 44، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

اسی مضمون پر مشتمل حدیث شریف کی شرح بیان کرتے ہوئے حکیم الامت، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اسلام میں زمانہ کو موثر نہیں مانا گیا موثر اور متصرف اللہ تعالیٰ ہے۔“ (مرآة المناجیح، جلد 6، صفحہ 414، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ



دارالافتاء  
DARUL IFTA AHLESUNNAT

**Dar-ul-Ifta Ahlesunnat (Dawat-e-Islami)**



[www.daruliftaahlesunnat.net](http://www.daruliftaahlesunnat.net)



[daruliftaahlesunnat](https://www.facebook.com/daruliftaahlesunnat)



[DaruliftaAhlesunnat](https://www.youtube.com/DaruliftaAhlesunnat)



[Dar-ul-ifta AhleSunnat](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daruliftaahlesunnat)



[feedback@daruliftaahlesunnat.net](mailto:feedback@daruliftaahlesunnat.net)